

اعتكاف

مولانا عبدالماجد دریابادی

انسان نہ محض جسم و مادہ ہے اور نہ صرف جان و روح بلکہ دونوں کے ایک مرتب مجموعے کا نام ہے۔ جس طرح جسم و مادہ کا ایک عالم ہے اور اس کی صحت و مرض کے خاص قوانین ہیں، ٹھیک اسی طرح ایک مستقل عالم جان و روح کا ہے، اور روح کی صحت و مرض، ضعف و قوت، بالیدگی و پژمردگی، ترقی و تنزل کے لیے بھی کچھ خاص قواعد اور رضا بطیئے مقرر ہیں۔ شریعت اسلامی ان دونوں عالموں کے متعلق ضروری ہدایتوں کی جائیں ہے۔

جسم کو ہلاک کر دینا انسان کے لیے خدا کی مرضی نہیں البتہ جسم کو روح کا ماتحت و مطیع رکھنا یعنی نشانے خداوندی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ تمام عبادتوں سے مقصود صرف اسی قدر ہے کہ روح کی لطافتِ طبیعی قائم رہے اور مادہ کی کثافتیں اس کی اصلی سرشت پر غالب نہ آنے پائیں کہ یہی راہِ عبدیت، یہی طریقِ معرفت، یہی مسلک خودشناصی ہے۔

روح کا انتہائی کمال یہ ہے کہ جسم سے الگ اور مجذد ہو کر نہیں بلکہ جسم کے ساتھ مراتب ترقی طے کرے۔ ٹھیک اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روح کی رفتار ترقی میں سب سے زیادہ رکاوٹیں بھی جسم تھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ غصہ، کینہ، حسد، حرص وغیرہ جسم ہی کی ترکیب کا نتیجہ ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو روح کی کمزوری و پژمردگی کا باعث ہوتی ہیں، اور اس کی طبیعی پاکیزگی و صفائی کو گدلا کرتی رہتی ہیں۔

روح کی صحت و پاکیزگی و بالیدگی برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جسم کو ہلاک کیے بغیر کبھی کبھی دنیا کے تعلقات کو کمی کے انتہائی نفطے پر پہنچا دیا جایا کرے۔ شریعت کی بولی میں اس صورت پر ہیز کا نام روزہ ہے، اور اس ”پر ہیز“ کے شرائط جب ذرا زیادہ سخت کر دیے جاتے ہیں تو اس کا نام ”اعتكاف“ پڑ جاتا ہے۔ اعتكاف کے لفظی معنی کسی مکان کے اندر اپنے تیسیں مقید کردینے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان عبادت کی غرض سے مسجد میں قیام و سکونت کو لازم قرار

وے۔

مسجد اس مکان کو کہتے ہیں جو حضن یادِ الہی و عبادت خداوندی کے لیے مخصوص ہو۔ اس میں بیٹھ جانے کے معنی ہی یہ ہیں کہ بندے نے اپنے تعلقات سب طرف سے توڑ کر صرف اپنے خالق سے جوڑ رکھے ہیں۔ اور جس وقت تک وہ اس زاویہ نشینی کی حالت میں ہے وہ نہ کسی کا دوست ہے نہ عزیز، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نہ بھائی ہے نہ شوہر، نہ رفیق ہے نہ رقیب، بلکہ بندہ ہے اور حضن بندہ۔ عورت کی خواہش کرنا اس کے لیے منوع، غیر ضروری گفتگو اس کے لیے ناجائز، کھانا پینا صرف اسی حد تک جائز جو جسم کو ہلاک ہونے سے محفوظ رکھ سکے۔ دوران اعتکاف بندہ گویا اپنے تصور میں ہر وقت دربارِ خداوندی میں حاضر رہتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ شے جو اس دربار کے منافی ہے، اس کے لیے ناجائز ہے۔

چراغ اسی وقت روشن ہو سکتا ہے جب اس میں میل موجود ہو، انہیں جب ہی حرکت کر سکتا ہے جب اس میں بر قی یادِ خانی قوت کا ذخیرہ موجود ہو، جسم کی زندگی جب ہی قائم رہ سکتی ہے جب اسے غذا پہنچتی رہے۔ روح کی زندگی بھی جب ہی قائم و برقرار رہ سکتی ہے جب اسے اپنے مزاج و سر شست کے مطابق غذا پہنچتی رہے۔ اور روح کی غذا بھی ہے کہ کبھی کبھی اسے مادی کائنات کے ماحول سے ڈور رکھ کر اس کی فطری لطافت کو ابھرنے اور طبیعی پاکیزگی و شرافت کو چینکنے کا پورا موقع دیا جائے۔

دنیا کا سب سے بہتر و برتر انسان علیہ الصلوٰۃ والسلام، خلوٰۃ و جلوٰۃ دونوں کے آئین و انداز کا پورا رمز شناس تھا۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف عادت شریف میں داخل تھا۔ ماہِ صیام سارے کاسارا عبادت و ذکرِ الہی میں گزرتا تھا۔ لیکن آخر کے ۱۰ دن میں آتشِ شوق اور زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ ازواج و اصحاب سے بے تعلق ہو کر یہ پورا عشرہ مسجد ہی کی چار دیواری کے اندر گزرتا تھا، اور بندے کو اپنے معبدوں کے ساتھ خلوٰۃ نشینی کے سارے لطف حاصل ہوتے تھے۔

ہماری آج ایک بڑی شامت یہ ہے کہ ہم اپنے تیسیں "جنگ بذر" شروع کرنے کے لیے آمادہ پاتے ہیں لیکن نہیں سوچتے کہ جنگ بذر سے بہت پیش تر ایک منزل "غفار حرا" کی بھی طہ ہو چکی تھی۔ واقعات میں ترتیب قائم رکھنا یہ بھی بجائے خود ایک بہت اہم شے ہے۔ کسی واقعے کے اجزا سب وہی رہیں، لیکن اگر اجزا کی ترتیب الٹ دی جائے تو وہ واقعہ مج سے جھوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے چ جائیکہ بعض اجزا کو سرے سے نظر انداز کر دینا!

آج ہم میں انجمنوں کی کمی نہیں، کافر نسوان کا قحط نہیں، جلوسوں کی سرد بازاری نہیں۔ لیکن اس ذوقِ انجمن آرائی و جلسہ سازی کے ساتھ کتنے ایسے ہیں جو اپنے اُتی ہادیؑ کی پیروی میں رمضان المبارک کو

اس کی شرائط کے ساتھ گزارنا اور پھر اعتكاف کرنا ضروری سمجھتے ہیں؟ کیا رسول خدا کا یہ فعل عبث ولا حاصل ہوتا ہوا؟ کیا اس کی ضرورت ان کو تھی؟ مگر ہمارے تہذیب یافتہ دل اور تعلیم یافتہ دماغ اس سے بے نیاز ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس عارضی زاویہ نشینی کا تجربہ کر کے دیکھا ہے اور یہ تجربہ ناکام ولا حاصل رہا ہے؟ حاشا یہ مقصود نہیں کہ ساری قوم اجتماعی زندگی کو چھوڑ کر اپنے زادیوں کے اندر ہمیشہ کے لیے بیٹھ رہے لیکن یہ گزارش ضرور ہے کہ دوسروں کی اصلاح و ہدایت سے اپنی اصلاح و ہدایت ترمیماً مقدم ہے اور اپنی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقدس ہادیٰ کے طریقے کے موافق کبھی کبھی ذرا دنیا کی کش کمش سے کنارہ کش ہو کر خود اپنے نفس کا جائزہ لیئے اپنے اعمال کا احتساب کرنے اور دنیا کے پاک و بے نیاز خالق کے حضور میں اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کا اعتراض کرنے، اور آئیدہ کے لیے اس کی توفیق طلب کرنے میں کچھ وقت صرف کیا کریں۔

چراغ پانی سے نہیں، تیل سے روشن رہتا ہے۔ ہمارے اندر اگر روحانی صفائی و پاکیزگی کا تیل ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نمائش، نفسانیت و جاہ پسندی کے پانی نے لے لی ہے تو کیونکہ ہم سے ہدایت کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہر فرد سے پہلے سوال خود اس کی ذاتی زندگی کے متعلق ہو گا۔ یہ زندگی کا نفرنسوں اور مجموعوں کی خود نمائیوں کے اندر نہیں سنورتی، اس کے سدھارنے اور سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی تو بندہ بے چاب و بے واسطہ اپنی حضوری اس بڑے دربار میں محسوس کرے جہاں پرش صرف خلوص و راستی کی ہوتی ہے۔ بحث و گفتوگو یا مناظرہ و تردید کی حاجت نہیں۔ صرف تجربے کی ضرورت ہے۔ ان شاء اللہ ہر حال میں اعتكاف کا تجربہ مندرجہ پیدا کرے گا!